

Ziyarah Nahiya

السَّلَامُ عَلَى آدَمَ صِفْوَةَ اللَّهِ مِنْ خَلِيقَتِهِ،

السَّلَامُ عَلَى شَيْثٍ وَلِيِّ اللَّهِ وَ خَيْرَتِهِ،

السَّلَامُ عَلَى إِدْرِيسَ الْقَائِمِ لِلَّهِ بِحُجَّتِهِ،

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣)
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

Prophet Mohammad s.a.w

No fatigue, disease, sorrow, sadness, hurt or distress
befalls a Muslim - not even the prick he receives
from a thorn - except that Allah expiates some of his
sins because of it. (*Sahih al-Bukhari*, Book 70,
#545)”

Whoever ascribes to me what I have not said then let him occupy his seat in Hell-fire! (*Sahih al-Bukhari*, Book 3, #109)”

– Prophet Muhammad

“Ibn Mas'ud reported that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Shall I tell you who is unlawful for the Fire - or the one for whom the Fire is unlawful? It is unlawful for everyone who is easy, flexible, modest and uncomplicated.”

– at-Tirmidhi

“Seek knowledge from the Cradle to the Grave”

– Prophet Muhammad, Al-Hadith: Sayings of the Prophet Muhammad

Mola Ali AS

He who is greedy is disgraced; he who discloses his hardship will always be humiliated; he who has no control over his tongue will often have to face discomfort.

The mind of a wise man is the safest custody of secrets; cheerfulness is the key to friendship; patience and forbearance will conceal many defects.

Man is a wonderful creature; he sees through the layers of fat (eyes), hears through a bone (ears) and speaks through a lump of flesh (tongue).

Live amongst people in such a manner that if you die they weep over you and if you are alive they crave for your company.

If you overpower your enemy, then pardon him by way of thankfulness to Allah, for being able to subdue him.

Imam Hassan AS

Imam Hasan(AS) said to a man who had just been cured from a disease: Allah has mentioned you; therefore, you should mention Him, and has pardoned you; therefore, you should thank Him.

The most discerning sight is that which is most piercing in the good. The most perceptive hearing is that which retains the reminding and makes benefits.

The soundest heart is that which is pure from suspicions.

Source: Tuhaf al-Uqool

Imam Musa Kazim

Whenever you get a pious leader and ruler (then) thank God for this boon.

Always say the right thing although it may lead to your loss.

Imam Jafar

* The perfection of intellect is in three (things): humbleness for Allah, good certainty, and silence except for good.

* Ignorance is in three (things): Haughtiness, the intense of dispute, and the ignorance in Allah.

Imam Naqi

* The neglecter of the Bismillah is as same of the neglecter of the (obligatory) prayers.

* The thankful of a grace should be happy for thankfulness more than it is for the grace.

Imam Baqir

He, peace be on him, said: "He whose outward (deeds) are heavier than his inward (deeds), his scales are light.

9. He, peace be on him, said: "How many a person

meets a person and says to him: may Allah ruin your enemy, and he has no enemy except Allah.

Imam Taqi

2. The men who does not know the ways of arrival & entry the ways of exit & exodus will tire & irk him. (BIHAR UL ANWAR VOL-78, P-364).

3. The one who get satisfied & contented with a thing beofre recognition & information so he has presented himself to annihilation , & a trouble some & aweful end. (BIHAR UL ANWAR VOL-78, P-364).

Imam Zain

„To what extent you can, avoid bad deeds, even if everybody takes you as the agent of bad deeds.“

— Ali Zayn al-Abidin Majlisi, Bihārul Anwār, vol.78, p. 161.

Surely, I have never brought to mind the martyrdom of the children of Fātimah (A. S.) except that I have been choked with tears due to it.“

— Ali Zayn al-Abidin Majlisi, Bihārul Anwār, vol.46, p. 109.

Imam Raza

He, peace be on him, said: “When two groups (of people) meet (in battlefield), Allah helps the greater in pardoning.52”

He, peace be on him, said: “Man’s walking behind a man is a trial for the followed and abasement for the follower.53”

Imam Hassan Askari

8- The mutual love of the pious. The hate of the sinful to the pious is an advantage for the pious. The hate of the pious to the sinful is debasement for the sinful.

9- To greet everyone you pass by and to sit in a place other than the first class of a session are signs of modesty.

Imam Hussain AS

**No one will feel secured on the Resurrection Day except those who feared God in this world.
(Biharol Anwar, Vol. 44, P. 192)**

People are slaves to the world, and as long as they live favorable and comfortable lives, they are loyal to religious principles. However, at hard times, the times of trials, true religious people are scarce. (Biharol Anwar, Vol. 78, P. 117)

ناد علی کبیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَادِ عَلِیًّا مَّظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَّكَ فِي النَّوَابِ
كُلُّ هَمٍّ وَ غَمٍّ اِلَى اللّٰهِ حَاجَتِي وَ عَلَيْهِ مُعَوْلِي كُلَّمَا رَمَيْتُ مُتَقَاضِيًا فِي اللّٰهِ وَيَدُ
اللّٰهِ لِي وَ لِي اللّٰهِ لِي اَدْعُوكَ كُلُّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَيَنْجِلِي بِعَظَمَتِكَ يَا اللّٰهُ وَ بِنُبُوَّتِكَ يَا
مُحَمَّدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهِ وَ سَلَّمَ وَ بَوْلًا يَتَكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ اَدْرِكْنِي بِحَقِّ لُطْفِكَ
الْخَفِيِّ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَنَا مِنْ شَرِّ اَعْدَائِكَ بَرِيٌّ بَرِيٌّ اللّٰهُ صَمَدِي بِحَقِّ اِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا اَبَا الْغَيْثِ اَغْنِنِي يَا عَلِيُّ اَدْرِكْنِي يَا قَاهِرَ الْعَدُوِّ وَ وِيَا وَ اِلَى
يَا الْوَلِيِّ يَا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ يَا مُرْتَضِي عَلِيُّ يَا قَهَّارُ تَقَهَّرْتَ بِالْقَهْرِ وَ الْقَهْرُ فِي
قَهْرٍ قَهْرِكَ يَا قَهَّارُ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ اَنْتَ الْقَاهِرُ الْجَبَّارُ الْمُهْلِكُ الْمُنْتَقِمُ الْقَوِيُّ
الَّذِي لَا يُطَاقُ اَنْتِقَامُهُ وَ اَفَوْضُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَ اَلْهَكْمُ اِلَهُ
وَ اِحْدُجْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ط حَسْبِيَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ط نِعْمَ
الْمَوْلِي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ط يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَغْنِنِي يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ اِرْحَمْنِي
يَا عَلِيُّ اَدْرِكْنِي يَا عَلِيُّ اَدْرِكْنِي بِرَحْمَتِكَ وَ مَنِّكَ وَ جُودِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے (اے رسول)
آپ علی کو پکاریئے جو عجائباتِ عالم کے مظہر ہیں آپ ان کو ہر
مصیبت میں ناصر و مددگار پائیں گے یعنی کہ ہر غم و الم میں اور میری
حاجت کا پورا کرنے والا اللہ ہی ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اے
محب خدا اور اے ولی خدا جب بھی آپ نے کسی کام کو کیا تو امر الہی
کے مطابق کیا اللہ کا ہاتھ یعنی آپ میرے لئے ہیں اور میں نے آپ کو ہر
رنج و مصیبت میں پکارا ہے اور عنقریب میرا رنج و غم اے اللہ تیری
عظمت کے واسطے سے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی
نبوت کے صدقہ میں اور اے علی آپ کی ولایت کے طفیل میں دور
ہوجائیگا اے علی اے علی آپ ان الطاف کریمانہ مخفی کے تصدیق میں
جو آپ مجھ پر فرماتے ہیں اللہ بزرگ و برتر ہے اللہ بزرگ و برتر ہے

(اے علیؑ) میں آپ کے دشمنوں کے شر سے بری ہوں اور نہ مجھے ان کا خوف و خطر ہے نہ ان سے خائف ہوں اللہ میرا محافظ ہے اے علیؑ اے سب سے زیادہ فریاد کو پہنچنے والے آپ میری مدد کو پہنچئے اور میری مدد فرمائیے اس کے صدقہ میں کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سی مدد چاہتا ہوں اے دشمنوں پر قہر کرنے والے اے ولیوں کے والی (علیؑ) اے عجائبات کو ظاہر کرنے والے تو اپنے قہرو جبروت کی بنا پر قادر ہے اور غضبِ حقیقی تیرے ہی سے سزاوار ہے اے قہر کرنے والے اے شدید حملہ کرنے والے تو ہی قاہر ہے تو ہی غضب کرنے والا ہے اور تو ہی ہلاک کرنے والا تو ہی حقیقی انتقام و بدلہ لینے والا ہے کیونکہ تجھ سے انتقام لینے کی کسی کو طاقت نہیں اور میں اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اللہ جو یقیناً بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے اور تمہارا اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ رحمن و رحیم ہے، اللہ ہی وہی بہترین مولا اور نصرت کرنے والا ہے اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے میری فریاد کو پہنچئے اور اے مساکین پر رھم کرنے والے میرے اوپر بھی رحم فرمائیے اے علیؑ میری مدد کیجئے اور اے خدا میں جو علیؑ سے اپنی حاجت مانگ رہا ہوں وہ تیری رحمت تیرا احسان تیری جو دوسخا کے صدقہ میں مانگ رہا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

پنجتن پاک

محمد ﷺ بن عبد اللہ

دیکھتا ہوں خود کو میں گردِ سفر ہوتے ہوئے

منزلِ عشقِ نبی لگتی ہے سر ہوتے ہوئے

(مسرور جوہر)

فاطمہ بنت محمد ﷺ

مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز

از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز
زہرا سلام اللہ علیہا ہیں یوں خیال سخنور کے آس پاس
خوشبوئے پاک جیسے گل تر کے آس پاس
(نوشتہ امروہوی)

علیٰ ابن ابی طالب
تُو تو ہر دین کے، ہر دور کے انسان کا ہے
کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے
ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاء اللہ
تجھ کو اک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے

حسنؑ ابن علیؑ
اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا
آسمان پہ چاند پورا تھا مگر آدھا لگا
افتخار نسیم

حسین ابن علیؑ
آنکھوں کے ساحلوں پہ بے اشکوں کا اک بجوم
شاید غم حسین (ع) کا موسم قریب ہے

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ (۱) عَلَّمَ الْقُرْءَانَ (۲) خَلَقَ الْاِنْسَانَ (۳) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (۴) الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (۵) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (۶) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيزَانَ (۷) اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (۸) وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوْا
الْمِيزَانَ (۹) وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنْعَامِ (۱۰) فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ

(١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ
(١٥) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧)
فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا
يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ
(٢٢) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ
كَالِأَعْلَامِ (٢٤) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦)
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨)
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩) فَبِأَيِّ آيَاتِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّةَ تَقْلَانِ (٣١) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
(٣٢) يَلْمَعَشَرَ الْآجِنِ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَدُّوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوا لَا تَتَفَدُّونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤)
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٣٦) فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِأَيِّ آيَاتِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩) فَبِأَيِّ آيَاتِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٠) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
(٤١) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
(٤٣) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ (٤٤) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥)
وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (٤٦) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٧) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ
(٤٨) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٩) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ آيَاتِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥١) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٥٣) مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
(٥٤) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٥) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّنَّ إِنْسٌ
قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (٥٦) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧) كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ
وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٩) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا
الْإِحْسَانُ (٦٠) فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦١) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (٦٢)

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣) مُدْهَمَّتَانِ (٦٤) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
 (٦٥) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٧) فِيهِمَا
 فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٩) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ
 حِسَانٌ (٧٠) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧١) حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
 (٧٢) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٣) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (٧٤)
 فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٥) مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
 (٧٦) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 (٧٨)

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
 أَحَدٌ (٤)

حضرت حر کی شان میں شاعری

حر کہہ رہے ہیں آگ سے مولا نکال دیں
 عاصی ہوں میرا نام شہیدوں میں ڈال دیں
 مقتل میں الاماں کا ہے اب شور چار سو
 مجھ کو سخی یہ تیر کماں اور ڈھال دیں
 آل نبی بھی ناز کرے اس کے بخت پر
 اپنا وہ جس کے واسطے بی بی رومال دیں
 آنسو بہا کے حضرت حر نے یہی کہا
 عباس با وفا مجھے اوج کمال دیں
 لکھتا ہے یہ قصیدے شب و روز آپ کے
 مولا سحر کے فن کو سند لا زوال دیں

حضرت زینبؓ کی شان میں شاعری

اسی عنوان سے کھولا گیا باب زینب
دین اسلام ہے دراصل شباب زینب

....

عالم خلق میں تکرار کا امکان ہی نہیں
دہر میں ڈھونڈئیے اب آپ جواب زینب

حضرت عباسؓ کی شان میں شاعری

وہ شان اس علم کی وہ عباس کا جلال
نخلِ زمردی کے تلے تھا علی کا لال
پرچم پہ جان دیتی تھیں پریوں کا تھا یہ حال
غل تھا کہ دوشِ حور پہ بکھرے ہوئے ہیں بال
ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے
طوبیٰ بھی دب گیا تھا پھریرے کی اوج سے

اسما الحسنیٰ

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَقَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
الْقَابِضُ

الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعَزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ
الْجَلِيلُ

الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ
الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِي الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُوَخَّرُ
الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُنْتَعَالُ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُو الرَّؤُوفُ
مَالِكُ الْمُلْكِ

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنَى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ
الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ

دعائے معراج

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ كُلُّ مَعْبُودٍ يَا مَنْ يَحْمَدُهُ كُلُّ مَخْمُودٍ
يَا مَنْ يَطْلُبُ عِنْدَهُ كُلُّ مَفْقُودٍ يَا مَنْ يَفْرَعُ إِلَيْهِ كُلُّ مَجْهُودٍ يَا مَنْ سَأَلَهُ غَيْرُ
مَرْدُودٍ يَا مَنْ بَابُهُ عَنْ سُؤَالِهِ غَيْرُ مَسْدُودٍ يَا مَنْ هُوَ غَيْرُ مَوْصُوفٍ وَلَا
مَحْدُودٍ يَا مَنْ عَطَاؤُهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ وَلَا مَنكُودٍ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ لَيْسَ
بِبَعِيدٍ وَهُوَ نِعْمَ الْمَقْصُودُ يَا مَنْ رَجَاءُ عِبَادِهِ بِحَبْلِهِ مَشْدُودٌ يَا مَنْ لَيْسَ بِوَالِدٍ
وَلَا مَوْلُودٍ يَا مَنْ شَبَّهَهُ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ يَا مَنْ كَرَمُهُ وَفَضْلُهُ لَيْسَ
بِمَعْدُودٍ يَا مَنْ حَوْضُ بَرِّهِ لِلْأَنَامِ مَوْرُودٌ يَا مَنْ لَا يُوصَفُ بِقِيَامٍ وَلَا قُعُودٍ يَا
مَنْ لَا تَجْرِي عَلَيْهِ حَرَكَةٌ وَلَا جُمُودٌ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانَ يَا رَحِيمَ يَا وَدُودَ يَا
رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يَعْقُوبَ يَا غَافِرَ ذَنْبِ دَاوُدَ يَا مَنْ لَا يُخْلَفُ الْوَعْدَ وَيَعْفُو
عَنِ الْمَوْعُودِ يَا مَنْ رِزْقُهُ وَسِتْرُهُ لِلْعَاصِينَ مَمْدُودٌ يَا مَنْ هُوَ مَلْجَأُ كُلِّ
مَقْصِيٍّ مَطْرُودٍ يَا مَنْ دَانَ لَهُ جَمِيعُ خَلْقِهِ بِالسُّجُودِ يَا مَنْ لَيْسَ عَنْ نَيْلِ

وَجُودِهِ أَحَدٌ مَصْدُودٌ يَا مَنْ لَا يَحِيفُ فِي حُكْمِهِ وَ يَحْلُمُ عَنِ الظَّالِمِ العُنُودِ
 اِرْحَمَ عُبَيْدًا خَاطِنًا لَمْ يُوفِّ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تُرِيدُ يَا بَارُّ يَا وَدُودُ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَبْعُوثٍ دَعَا إِلَى خَيْرٍ مَعْبُودٍ وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
 أَهْلِ الكَرَمِ وَ الجُودِ وَ افْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

آیت الکرسی

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
 خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ
 تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
 يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
 يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

قصیدہ در مدح امام حسین علیہ السلام - میر تقی میر

فلک کے جور و جفا نے کیا ہے مجکو شکار

ہزار کوس پہ ہے جائے یک تپیدن دار

خراب کوہ و بیابان بیکسی ہوں میں

برنگِ صوتِ جرس ہر طرف ہے میرا گذار

بغیر خوردنِ خون کب نہار ٹوٹے ہے
سوائے گریہِ صبح اب کہاں ہے ابِ خمار

لگیں نہ داغ سو کیوں پھیکے میرے سینے پر
نمک نہیں نظر آتا بجز رخِ دلدار

سو وہ بھی دیکھنا ملتا نہیں ہے گھر بیٹھے
مگر ہوں بند میں رسوائے کوچہ و بازار

سوائے نالہِ جاں سوز کون ہے دل سوز
بغیر آہِ سحرگاہ کون ہے غمخوار

جنوں میں جب سے خوش آیا لباسِ عریانی
نہیں ہے دامنِ صحرا میں تب سے مجکو قرار

ہمیشہ ساتھ ہے دامن سوار لڑکوں کا
مگر کہ خاکِ وفا سے بنا ہے میرا غبار

عجب ہے مجکو جو تو دیکھنے نہیں آتا
رہا ہوں ایک تری انکھڑیوں کا میں بیمار

ہوا ہوں جورِ فلک سے نیٹ ہی زار و نزار
پہونچو یا خلف الصدق حیدرِ کرّار

شہا غلام کو تیرے یہ زورِ بازو ہے
کہ وقتِ جنگ جو لے کر کماں کو ہووے سوار

اگر پہاڑ ہو دشمن تو اُس کے سینے میں

کماں سے چھوٹتے ہی تیر بند ہو سوفار

لگاوے پھر وہیں دو چار ایسے پے در پے
کہ ایک کا ہو نشان دوسرے کی جائے قرار

کرے ہے فخر بہت اوج پر فلک شاہا
رضا جو ہو تو کروں تیرے روضے کا بستار

کہ انفعال ہو لاف و گزاف سے اُس کو
زمین ہے صحن کی جس کے یہ گنبد دوار

کرے ہے جوہرِ اول نگاہ جس ساعت
تو ایک ہاتھ سے تھانبے ہے سر اُپر دستار

امام ہر دو جہاں جس کی آستان کی خاک
رکھے ہے رتبہ کحلِ جواہرِ الابصار

زبے وہ روضہ جہاں دیدہ ملک ہیں فرش
قدم کو رکھتے ہوئے اُن پہ آتے ہیں زوار

اگر طلوع ہو خورشید سامنے اُس کے
ہر ایک ذرے کو واں کے ہے یہ لبِ گفتار

کوئی کہے کہ یہ کیا شوخ چشم شپر ہے
کوئی کہے کہ یہ ہے موشِ کور ناہموار

لیا ہے روزِ سیہ نے بہت اُسے گھبرا
چلی ہے چھوڑ کے حیراں ہو رخنہ دیوار

شعاعِ روضے کے قبے کی ہے گی عالمگیر
پھرے گا سایہٴ شب اب جہاں میں ہوتا خوار

بہ صانعے کہ یہ نقاشیاں ہیں سب اُس کی
زمین ہو یا ہو فلک یا حجر ہوں یا اشجار

بہ احمدے کہ نبوت ہوئی ہے اُس پر ختم
بہ فاطمہ کہ وہ ہے بنتِ سیدِ مختار

بہ مرتضیٰ کہ ولایت مسخر اُن نے کی
بہادری ہے غلاموں کی جسکے فن و شعار

بہ آن امام کہ کشتہ ہے زہرِ قاتل کا
گرے ہیں لختِ دل اُس کے زمیں پہ کٹ کے ہزار

بہ آن شہید کہ تشنہ لب و شکستہ دل
موا ہے دشتِ بلا میں ہیں اب تلک آثار

کہ جب ہلالِ محرم نمود ہوتا ہے
جہاں میں کرتے قیامت ہیں اُس کے ماتم دار

بہ سینہ سوزیِ داغ و بہ آتشِ ہجران
بہ آہِ سردِ سحرگاہی و بہ نالہٴ زار

بہ سرد مہریِ شیریں، بہ کینہٴ خسرو
بہ گرم جوشیِ فرہاد و سختیِ کوہسار

بہ عشقِ دیر، بہ طوفِ حرم، بہ سعیِ تمام
بہ لوحِ مشہدِ عاشق، بہ سوزِ شمعِ مزار

بہ آب و رنگِ گلستان، بہ بیکسیِ اسیر
کہ اس کو کنجِ قفس میں رہے ہے بادِ بہار

بہ ساغرِ مئےِ گلگون، بہ توبہِ سنگیں
بہ دلنوازیِ ساقی، بہ ابرِ دریا بار

بہ دستگیریِ چاک و بہ بے قراریِ جیب
بہ سینہ کاویِ دشمن، بہ زخمِ دامن دار

بہ حیرتِ رخِ جانان، بہ چشمِ واماندہ
بہ سعیِ باطلِ ناخن، بہ عقدہٴ دل کار

بہ قلقل و بہ سبو و بہ لغزشِ ہر دم
بہ مستیِ مئےِ ناب و بہ خاطرِ ہشیار

بہ پوچ گویِ بیتابی و بہ بے خوابی
بہ کم زبانیِ صبر و بہ دیدہٴ بیدار

بہ دیر و برہمن و کفر و یا صنم گوی
بہ شیخ و مسجد و تسبیح و رشتہٴ زنار

بہ سیلِ خانہ خراب و بہ وادیِ مجنوں
بہ جرگہٴ جرگہٴ غزالان، بہ دیدہٴ خونبار

بہ خوشہ خوشہ سرشک و بہ دارِ بستِ مژہ

بہ قطرہ قطرہ شراب و بہ جامِ دستِ یار

بہ ضعفِ جسمِ نزار و بہ طاقتِ سرکش
بہ جانِ عاشقِ مسکین کہ یار پر ہے نثار

بہ خاکِ عاشقِ بے خانماں کہ بادِ صبا
نہیں دکھاتی اُسے بعدِ مرگِ کوچہِ یار

بہ اضطرابِ چراغ و بہ دشمنیِ نسیم
بہ خاطرِ دمِ آخر کہ اُس سے ہے بیزار

بہ دورِ گردِ رنگِ قبول و یاسِ دعا
بہ اعتزازِ اجابت، بہ حلقہٴ انکار

بہ خیلِ خیلِ خرابی، بہ گوشہٴ صحرا
بہ خوشِ سوادِ شہر و بہ قریہ و بہ دیار

بہ شوقِ وصلِ نگار و بہ جانِ مایوسی
بہ آرزوئے ہمِ آغوشی و بہ بختِ کنار

بہ سینہ کوبیِ زخمِ جگر، بہ ماتمِ میر
بہ جانِ کئی گلوگیر و حسرتِ دیدار

قسم ہے میرے تنیں ان تمام قسموں کی
کہ تجھ کو علم ہے ان سب کا کیا کروں میں شمار

یہ آرزو ہے مرے دل میں مدتوں سے شہا
رہے نہ بعد مرے ہند میں یہ مشّتِ غبار

اڑا دے اس کو صبا یاں تلک کہ لے پہونچے
تجھ آستان کے آگے کہ بے فلک کردار

رہے ہمیشہ ترے دوستوں کے ساتھ اقبال
عدو کو تیرے نہ دے فرصت ایک دم ادبار

(میر تقی میر)

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (۱) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (۲) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
(۳) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (۴) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۵) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ
دِينِ (۶)

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ (۲) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (۳) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ (۴)

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣)
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

زيارت حضرت عباس

سَلَامُ اللَّهِ وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَجَمِيعِ
الشُّهَدَاءِ وَالصَّدِيقِينَ، وَالزَّكَايَاتِ الطَّيِّبَاتِ، فِيمَا تَعْتَدِي وَتَرْوَحُ، عَلَيْكَ يَا بَنَ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصَدِيقِ، وَالْوَفَاءِ وَالتَّصِيحَةِ، لِخَلْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ الْمُرْسَلِ، وَالسَّبْطِ الْمُنتَجَبِ، وَالدَّلِيلِ الْعَالِمِ، وَالْوَصِيِّ الْمُبَلَّغِ وَالْمَظْلُومِ
الْمُهْتَضَمِ، فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ، وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ
1اللَّهِ عَلَيْهِمْ، أَفْضَلَ الْجَزَاءِ بِمَا صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وَأَعَنْتَ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ
بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ مَظْلُومًا، وَأَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ، جِئْتُكَ
يَا بَنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِفْدَاءً إِلَيْكُمْ، وَقَلْبِي مُسَلَّمٌ لَكُمْ وَتَابِعُ، وَأَنَا لَكُمْ تَابِعُ، وَنُصْرَتِي لَكُمْ
مُعَدَّةٌ، حَتَّى يَحْكَمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَامَعَ عَدُوَّكُمْ، إِنِّي بِكُمْ وَيَايَابِكُمْ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبِمَن خَالَفَكُم وَقَتَلَكُم مِّنَ الْكَافِرِينَ، قَتَلَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلْتَكُم بِالْأَيْدِي وَ
2. الألسن

: پس داخل روضه شوید و خود را به ضریح یحسانید و بگوئید

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ، الْمُطِيعُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّم، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ
وَرِضْوَانُهُ، وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَنِكَ، أَشْهَدُ وَأَشْهَدُ اللَّهُ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَى بِهِ
الْبَدْرِيُّونَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْمُنَاصِحُونَ لَهُ فِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ، الْمُبَالِغُونَ فِي
نُصْرَةِ أَوْلِيَائِهِ، الذَّابُّونَ عَنِ أَحِبَّائِهِ، فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ وَأَكْثَرَ الْجَزَاءِ، وَأَوْفَرَ الْجَزَاءِ،
3. وَأَوْفَى جَزَاءٍ أَحَدٍ مِّمَّنْ وَفِي بَيْعَتِهِ، وَاسْتَجَابَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَأَطَاعَ وُلاةَ أَمْرِهِ،

أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَالِغْتَ فِي النَّصِيحَةِ، وَأَعْطَيْتَ غَايَةَ الْمَجْهُودِ، فَبَعَثَكَ اللَّهُ فِي الشُّهَدَاءِ،
وَجَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرْوَاحِ السُّعَدَاءِ، وَأَعْطَاكَ مِنْ جَنَانِهِ أَفْسَحَهَا مَنزِلاً، وَأَفْضَلَهَا غُرْفاً،
وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عَالَمِينَ، وَحَشَرَكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسَنَ
أَوْلِيكَ رَفِيقاً، أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَلَمْ تَتَّكِلْ وَأَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ، مُقْتَدِياً
بِالصَّالِحِينَ، وَمُتَّبِعاً لِلنَّبِيِّينَ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِهِ وَأَوْلِيَائِهِ فِي مَنَازِلِ
4. مؤلف گوید که خوب است این زیارت را پشت سر قبر رو به قبله بخوانید. الْمُخْبِتِينَ، فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

و نیز بدانید که زیارت جناب عباس موافق روایت مذکور همین بود که ذکر شد، لکن سید بن طاوس و شیخ مفید و دیگران بعد از این

فرموده اند که پس برید به سمت بالا سر و دو رکعت نماز بخوانید و بعد از آن آنچه خواهید نماز بخوانید و یاد کنید خدا را بسیار و

: بگوئید در تعقیب نماز

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تَدْعُ لِي فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمُكْرَمِ وَالْمَشْهَدِ الْمُعْظَمِ
ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمّاً إِلَّا فَرَجْتَهُ، وَلَا مَرَضاً إِلَّا شَفَيْتَهُ، وَلَا عَيْباً إِلَّا سَتَرْتَهُ وَلَا رِزْقاً إِلَّا
بَسَطْتَهُ، وَلَا خَوْفاً إِلَّا آمَنْتَهُ، وَلَا شَملاً إِلَّا جَمَعْتَهُ، وَلَا غَائِباً إِلَّا حَفِظْتَهُ وَأَدْنَيْتَهُ، وَلَا

حَاجَةٌ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لَكَ فِيهَا رِضَىٰ وَلِي فِيهَا صَلاَحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ **5**. الرَّاحِمِينَ

: پس برگردید به سوی صریح و نزد پاها بایستید و بگوئید

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسَ ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ أَوَّلِ الْقَوْمِ إِسْلَامًا، وَأَقْدَمِهِمْ إِيمَانًا، وَأَقْوَمِهِمْ بَدِينِ اللَّهِ، وَأَحْوَطِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَخِيكَ، فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِي، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً اسْتَحَلَّتْ مِنْكَ الْمَحَارِمَ، وَأَنْتَهَكْتَ حُرْمَةَ الْإِسْلَامِ، فَنِعْمَ الصَّابِرُ الْمُجَاهِدُ الْمُحَامِي النَّاصِرُ، وَالْأَخُ الدَّافِعُ عَنِ أَخِيهِ، الْمُجِيبُ إِلَى طَاعَةِ رَبِّهِ، الرَّاعِبُ فِيمَا زَهَدَ فِيهِ غَيْرُهُ، مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ، وَالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ، وَأَلْحَقَكَ اللَّهُ بِدَرَجَةِ آبَائِكَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي تَعَرَّضْتُ لِمُزِيَارَةِ أَوْلِيَائِكَ، رَغْبَةً فِي ثَوَابِكَ، وَرَجَاءً لِمَغْفِرَتِكَ وَجَزِيلِ إِحْسَانِكَ، فَاسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَأَنْ تَجْعَلَ رِزْقِي بِهِمْ دَارًا، وَعَيْشِي بِهِمْ قَارًا، وَزِيَارَتِي بِهِمْ مَقْبُولَةً، وَحَيَاتِي بِهِمْ طَيِّبَةً، وَأَدْرِجْنِي إِدْرَاجَ الْمُكْرَمِينَ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يُنْقَلَبُ مِنْ زِيَارَةِ مَشَاهِدِ أَحِبَّائِكَ مُفْلِحًا مُنْجِحًا، قَدْ اسْتَوْجَبَ غُفْرَانَ الذُّنُوبِ، وَسَثَرَ الْعُيُوبِ، وَكَشَفَ الْكُرُوبِ، **6** إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

و چون خواهید وداع کنید آن حضرت را پس برید به نزد قبر شریف و بگوئید این را که در روایت ابوحمزه ثمالی است و علماء نیز ذکر

کرده اند

أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ وَأَسْتَرْعِيكَ وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِكِتَابِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ فَارْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي قَبْرِ ابْنِ أَخِي رَسُولِكَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَارْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، وَاحْشُرْنِي مَعَهُ وَمَعَ آبَائِهِ فِي الْجَنَانِ، وَعَرَّفْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَالْمُحَمَّدِ، وَتَوَفَّنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ، وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ، وَالْوَالِيَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ،
وَالْأَيْمَةِ مِنْ وُلْدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَإِنِّي قَدْ رَضَيْتُ يَا رَبِّي بِذَلِكَ،
7. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

زیارت جناب شہزادہ علی اکبرؑ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ

سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول خداؐ سلام ہو آپ پر

يَا ابْنَ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ أَمِيرِ

اے فرزند نبی اللہ سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر

الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحُسَيْنِ

المؤمنین سلام ہو آپ پر اے فرزند حسینؑ

الشَّهِيدِ الرَّاهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّهِيدُ وَابْنَ

شہید راہ خدا، سلام ہو آپ پر اے شہید راہ خدا اور فرزند شہید

الشَّهِيدِ الْمَظْلُومِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَظْلُومُ وَابْنَ

راہ خدا کے مظلوم سلام ہو آپ پر اے مظلوم اور فرزند مظلوم

الْمَظْلُومِ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ

کے لعنت کرے خدا اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا اور لعنت

أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ

کرے خدا اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا اور لعنت کرے خدا اس گروہ پر

فَرَضَيْتُ بِهِ

جس نے سنا آپ کے حق کو اور اس پر راضی رہا۔